

اگر آپ کی جان، مال یا صحت کو کوئی خطرہ ہو، تو آپ کو موبائل پر ایمرجنسی موبائل ایلرٹ بھیجا جا سکتا ہے۔

یہ ایلرٹ سیل براڈکاسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں، اس لئے ممبر بننے یا کوئی ایپ ڈائونلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ صرف متاثرہ علاقوں کی سمت بھیجے جا سکتے ہیں، اس لئے آپ کو تب ہی ملیں گے اگر ایمرجنسی آپ کے علاقہ میں ہوں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ پیغامات صرف سول ڈیفنس منسٹری اور ایمرجنسی منیجمنٹ، سول ڈیفنس ایمرجنسی منیجمنٹ گروپ، این زیڈ پولیس، فائر اور ایمرجنسی نیوزیلینڈ، منسٹری برائے صحت، منسٹری برائے پرائمری انڈسٹریز بی بھیج سکتے ہیں۔

اگر آپ کا فون کھلا ہے، پیغامات موصول کرنے کے قابل ہے، اور متاثرہ علاقہ میں ہے، تو آپ کو ایلرٹ ملنے چاہیے civildefence.govt.nz سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا فون ایلرٹ موصول کرنے کے قابل ہے۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ پیغامات دوسرے ایمرجنسی ایلرٹ پیغامات کا متبادل نہیں ہیں۔ یہ دوسرے وسیلوں سمیت آپ کو مطلع کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ تمام فون ایلرٹ موصول کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لئے اگر آپ کو ایلرٹ موصول ہو تو دوسروں کو بتائیں۔ اگر آپ سمجھیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو کسی سرکاری تنبیہ کا انتظار مت کریں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ کیسے کام کرتے ہیں؟

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ ایک وقف سگنل استعمال کرتے ہیں، اس لئے ایمرجنسی میں زیادہ قابل اعتماد ہیں، جبکہ نیٹورک انٹرنیٹ اور موبائل کی آمد و رفت کے بوجھ تلے دب سکتا ہے۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا نیٹورک استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہم آہنگ فون براڈکاسٹ کے دوران جب متاثرہ علاقہ میں داخل ہو تو ایلرٹ موصول ہو جائے گا۔

کیا میں ایمرجنسی موبائل ایلرٹ موصول کرنے سے استثناء کر سکتا ہوں؟

چونکہ ایمرجنسی موبائل ایلرٹ آپ کو محفوظ رکھنے کیلئے ہیں، اس لئے آپ ایمرجنسی موبائل ایلرٹ موصول کرنے سے استثناء نہیں کر سکتے۔ آپ کے فون پر دوسرے ملکوں میں استعمال ہونے والے طرز استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن نیوزیلینڈ میں ہم ایک مخصوص براڈکاسٹ کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔

اگر ایمرجنسی موبائل ایلرٹ موصول ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

جو بھی کر رہیں ہوں بند کر دیں اور ہدایات پر عمل کریں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ پیغامات صرف بالاختیار ایمرجنسی ادارے بھیجتے ہیں اور وہ بھی تب جب جان، صحت یا مال کو شدید خطرہ ہو (یا سال میں ایک یا دو بار تجربہ کرنے کے لئے) اس لئے اگر ایلرٹ موصول ہو تو جو کہا جائے اس پر سنجیدگی سے عمل کریں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ دوسرے وسیلوں کا متبادل نہیں ہیں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک اور وسیلہ ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو۔ دوسرے وسیلے جیسے ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی استعمال ہوں گے۔ یہ ایلرٹ دوسرے طریقہ اطلاع کا متبادل نہیں ہیں اور نہ ہی ان اقدام کی ضرورت کا متبادل ہیں جو اقدام قدرتی خطرات کے نتیجے میں اٹھانے چاہیے۔

آپ کو پھر بھی ایمرجنسی کے لئے تیار رہنا چاہیے اور کسی اطلاع کا انتظار کیے بغیر اقدام اٹھانے چاہیے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو کسی سرکاری تنبیہ کا انتظار مت کریں۔ فوری اقدام اٹھائیں۔

کچھ وقت نکال کر اپنا ذاتی ایمرجنسی پلان بنائیں، جس میں شامل ہو کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون مدد کر سکتا ہے، کس کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ پر happens.nz پر انٹرنیٹ کے ذریعہ پلان بنا سکتے ہیں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ کے بارے میں مزید معلومات civildefence.govt.nz سے حاصل کریں۔

ایمرجنسی موبائل ایلرٹ



اگر آپ کی جان، صحت یا مال کو کوئی خطرہ ہو،

تو آپ کو موبائل پر ایمرجنسی موبائل ایلرٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے ممبر بننے یا کوئی ایپ ڈائونلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔

civildefence.govt.nz

پر جا کر معلوم کریں کہ آپ کا فون ہم آہنگ ہے۔

